

EFU LIFE



EMBRACE WELLNESS



EFU LIFE **WIN LITE** SAVINGS PLAN

EFU Life Cares About Your Wellness

Prioritizing both healthy living and wellness is crucial for living a healthy life, involving the harmony of physical, nutritional and mental health that significantly influences daily life. By encouraging healthy habits, life becomes more enjoyable, leading to enriching experiences.

Discover how you can lead a healthier life with our unique wellness program.


EFU Life WIN - Lite - Your Path to Wellness

Introducing our groundbreaking wellness program that puts the power of managing your health and well-being right in your hands!

EFU Life WIN - Lite is a data-driven program that assists you in your journey towards living a healthier lifestyle by tracking your physical activity, monitoring your nutritional intake, challenging you to push your limits and offering rewards for accomplishing every milestone. With EFU Life WIN - Lite, we aim to empower our customers to take charge of their health, while still enjoying the peace of mind that comes from being protected by Pakistan's leading life insurance company.

EFU Life WIN - Lite brings you the power of wellness and protection in its most accessible form. Your trusted partner on the path to a healthier, happier you.

It's not just insurance; it's an exhilarating adventure towards a better you!





dacadoo

OUR HEALTH TECH PARTNER

Dacadoo is a Swiss technology company that specializes in supporting the digital transformation of its customers, including EFU Life through digital person-years of scientific data. Dacadoo has partnered with various life and health insurance carriers across the world and is driving the digital revolution in the health and wellness industry.




About EFU Life WIN - Lite Savings Plan

EFU Life WIN – Lite Savings Plan is the affordable variant of our flagship wellness offering; designed to protect your loved ones in unforeseen circumstances while rewarding you for maintaining a healthy lifestyle. With WIN – Lite, wellness and protection come together in an accessible, lifelong partnership.

This product is a unit-linked investment plan, different from traditional life insurance. It allows you to invest your premiums in a fund of your choice, emphasizing your financial growth. But it doesn't stop there. With our Wellness feature, you can maximize your rewards, including short-term, medium-term, and long-term policy-linked benefits that encourage healthy living.

This Plan Consists of Two Key Components

- Helps you in your Wellness Journey by tracking your lifestyle and rewarding healthy behavior.
- Protects your future through insurance.



A Winning Strategy

The Wellness Wheel makes digital health engagement easier than ever. It is a wellness tool that assesses and visualizes various aspects of an individual's well-being.

Encompassing seven different dedicated areas to track a user's holistic health and offer even more personalized goals. These categories include physical health, mental well-being, physical activity, sleep, mindfulness, self-control, and nutrition.



The Wellness Wheel is used as a self-assessment tool to help individuals identify areas of their life that may require more attention or improvement. By visualizing their well-being in this way, users can set goals and track their progress in different life dimensions, aiming for a more balanced and fulfilling life.

The Health Score

Health Score is a number between 0 and 1,000 that represents overall relative health. This science-based indicator is built on over 300 million person-years of scientific data. It increases or decreases in real-time, depending on how a user’s physical health, emotional wellbeing and lifestyle change over time. The Health Score is divided into 3 categories.



After calculating the Health Score, the following ranges are provided, each corresponding to specific categories, which indicate your initial health status

HEALTH SCORE RANGE	HEALTH SCORE CATEGORY	ACTION REQUIRED
0 – 479	Low	Needs a lot of improvement
480 – 549	Fair	
550 – 609	Good	On the right path for enhancing overall wellness
610 – 679	Very Good	
680 – 1000	Excellent Health Score	Keep up the good work!

Comprehensive Reward Program

EFU Life WIN - Lite offers three levels of rewards designed to motivate individuals to commit to a healthier lifestyle. These incentives promote well-being throughout the year, covering 365 days and involving various levels of rewards, starting from the first day of your WIN Membership.

You can earn points through regular tasks or physical activities like daily walks, gym workouts, cycling, etc. Additionally, points can be earned by simply engaging with EFU Life WIN - Lite App, which tracks and records your daily routines, including sleep, nutrition, and essential body information. Our app also remembers significant dates in your life and pleasantly surprises you with reward points which contribute to the improvement of your annual **WIN Status**.

Lifestyle & Loyalty Benefits – Wellness in Everyday Life

Enjoy access to special offers and partner discounts through EFU Life WIN – Lite, with exclusive offers in:

- Gyms and wellness brands
- Healthy dining, retail and entertainment
- Healthcare & diagnostics
- Fitness & wellness facilities



Access to Healthcare, Anytime, Anywhere with mHealth

EFU Life WIN also includes mHealth, a comprehensive telehealth platform designed exclusively for its customers. This digital health solution provides convenient access to medical care and wellness tools anytime you need them.

Key Features of mHealth:

Enjoy complimentary access to EFU Life mHealth services with your EFU Life WIN - Lite. No extra cost, just smarter care.

- 24/7 Doctor Consultations
- Digital Pharmacy
- Lab Booking & Home Sample Collection
- Health Tracking & Alerts
- Appointment Booking & Medication Reminders



REWARD LEVELS	TARGET	REWARDS
SHORT TERM REWARD	Complete 100,000 steps Challenge. or Engage in 10 hours of any Physical activity with an "elevated" heart rate, whichever comes first. (These targets are dynamic and can change based on the user's activity and premium level)	Voucher worth Rs. 500 on completing steps or heart rate goals. Upto 2 vouchers in a month.
MEDIUM TERM REWARD	Customers can earn up to 100,000 points annually. These points are earned through physical activity and engagement with the app.	The customer can earn up to 100,000 points and purchase exciting rewards from our online reward store.
LONG TERM REWARD	Max up to 35% policy linked bonuses can be earned depending on the policy term & WIN status.	Based on policy term and annual WIN status achieved at policy anniversary.

Policy Term (Years)	Percentage of Long-Term Policy Linked Bonus based on WIN Status			
	Beginner	Mover	Achiever	Winner
Up to 5 Years	0%	5%	10%	15%
6 to 10 Years	0%	7.5%	15%	20%
11 to 15 Years	0%	10%	20%	30%
16 to 20 Years	0%	12.5%	25%	35%

WIN Status:

The customer can progress through the four levels of EFU Life WIN - Lite Program and enjoy a variety of rewards based on how high their WIN status is. The more points you accumulate, the higher your WIN status, the greater the rewards.

Beginner



< 50,000 Points

Mover



50,000 Points

Achiever



70,000 Points

Winner




85,000 Points

Your WIN status will be locked after a year. To keep you engaged and motivated year after year, your WIN status begins at the Beginner level, and your points reset to zero at the start of every policy year.

EFU LIFE WIN POINTS YOU CAN EARN IN A YEAR




CUSTOMER WELLNESS JOURNEY



Supported Devices

Physical activities can be tracked through wearable devices. You can sync any of your wearable devices, such as Samsung Gear, Apple Watch, Fitbit, Garmin, Xiaomi, Infinix, Zero, etc., smartwatches, to the app.



About Unit Linked Savings Plan

Important Details

	Eligible Age	18 to 65 years
	Minimum & Maximum Plan Term	10 to 40 years
	Maximum age at Maturity	75 Years
	Minimum Premium	PKR. 50,000 per annum
	Fund Acceleration Plan	Minimum: PKR. 50,000
	Payment Mode	Annual
	Protection Multiples	5-50 (depending on the age of the policyholder at entry)
	Short Term	Up to PKR. 12,000 annually
	Medium Term	Up to PKR. 10,000 annually
	Long Term	Up to 35% annual bonus based on policy term & annual statuses

Disclosure of Product

This is a life insurance product which has two distinct elements i.e., Insurance Protection and Investment. The Investment Component is linked to the performance of underlying assets under unit linked fund(s).

Free Look Period:

If you cancel your policy within a free look period of 14 days from the date of the documents receipt, you are entitled for a full refund of premium less any expenses incurred by EFU Life in connection with our medical or clinical examinations.

Death Benefits:

The unfortunate demise of the policyholder (insured person) allows the nominated beneficiaries to receive the death benefit as given:

Till age 55

Sum assured of the Main Plan + Cash value of units applicable to regular basic plan premium +Cash value of units applicable against Fund Acceleration Premium (FAP) payments (if any)

Age 56 and above

Sum assured of the main plan OR Cash value of the units applicable to the regular basic plan premium (whichever is higher) Plus Cash value of the units applicable against Fund Acceleration Premium (FAP) payments (if any)

Maturity Benefits:

At the end of the Policy Term, the maturity benefit payable will be:

-  The Total Cash Value of the units allocated against the basic plan premium.
- plus**
-  The Cash Value of units allocation against FAP (if any)

Optional Benefits

Accidental Death Benefit:*

If death occurs due to accident; this benefit provides an additional lumpsum benefit

Accidental Death and Disability Benefit:*

This rider provides an additional lump sum benefit in case of accidental death or disability.

Additional Term Assurance:

This rider increases the level of life cover by providing an additional amount in the range of 50% to 200% of the Main Plan Sum Assured, in case of death of the Life Assured.

Accidental Death and Disability Benefit Plus:*

This rider provides an additional lump sum benefit in case of an accidental death or disability (permanent & total) that makes you permanently disabled.

Hospital Care Plus:

This rider will provide a daily benefit for each day of confinement in a hospital as a result of an accident or sickness.

Family Income Benefit:

This benefit ensures that a monthly income is paid to the family in case of an unfortunate death of the policy holder (insured person) during the plan term.

Lifecare Enhanced Benefit:

This rider provides a flexible benefit ranging from Rs. 50,000 to sum equivalent to main plan sum assured subject to a maximum of Rs.1.5 million, upon the diagnosis or the occurrence of any 20 covered critical illnesses.

***Any one accidental benefit can be selected.**

Waiver of Premium:

In case the life assured is unable to follow any occupation due to the sickness or accident, the premium would be paid by EFU Life.

Medical Recovery Benefit:

This innovative benefit is the first of its kind in Pakistan. It provides a lump sum payment on diagnosis of any of the medical conditions as defined in schedule of benefits.

Fund Acceleration Premium:

If you have surplus cash available at any point of time during the plan term, it can be invested in the plan to enhance your cash value. These additional payments in the plan are called Fund Acceleration Premium payments. You can make these payments at any time while the policy is in force. The minimum FAP payment is Rs. 50,000.

Partial Surrender:

Without surrendering your policy, you can withdraw any amount from your cash value to meet a sudden need. Partial Surrender is allowed subject to residual value of Rs. 20,000.

Complete Surrender:

You may surrender your plan after the 2nd year's premium is paid. At the time of surrender, you will be paid the full cash value of your fund. However, surrender in early policy years may result in lower cash value.

Indexation:

This option gives you the security and peace of mind of knowing that the benefits provided by your plan will be automatically updated in line with inflation every year regardless of your health. Once you select this option, the premium will increase every year by 5% of the prior year's premium.

Units Allocation

The proportion of basic plan allocated to investment is as shown in table:

Policy Year	Unit Allocation	Allocation charges*
1	40%	60%
2	70%	30%
3	85%	15%
4 and onwards	100%	0%*

***An allocation charge will be deducted from the Paid Premium every year as per the above table and the remainder will be allocated to the customer's account value.**

Sum Assured:

This is the amount payable on the unfortunate event of death of the policy holder/life assured. This is equal to the Regular Basic Plan Premium times the protection multiple selected by the policy holder.


The Protection Multiple is subject to limits dependent on the age at commencement. Refer to the table below for further details:

Age	Protection Multiple
18 – 35	5 to 50
36 – 40	5 to 40
41 – 49	5 to 30
50 – 60	5 to 10
60 – 65	5

Opportunity for Growth:

Every premium paid towards the plan will be invested in one of the internal investment funds of EFU Life. It is completely your decision to choose the internal fund based on your investment objectives. You can select from the following unit funds mentioned below:

All available funds are categorized with their risk profiling as per the investment criteria.



Funds	
EFU Managed Growth Fund	EFU Guaranteed Growth Fund*
Fund Categorization: Balanced	Fund Categorization: Money Market Fund
Risk Profile: Medium	Risk Profile: Low
An investment fund with a balanced investment strategy. It aims to achieve reasonable capital growth and steady returns with investment in government securities, carefully selected blue chip equities, and other fixed income securities and cash.	An investment fund providing steady returns with a guarantee that the bid price of the fund will never fail. It aims to achieve stable growth through investment in short term debt securities.
EFU Income Growth Fund*	EFU Agressive Fund
Fund Categorization: Income Fund	Fund Categorization: Aggressive
Risk Profile: Low	Risk Profile: High
Investment fund providing steady returns. It aims to achieve consistent capital growth with investment in government securities.	An investment fund with the aim of investing the equities providing a higher rate of return. It aims to maximize capital growth by using investments with an aggressive investment strategy.

*Income Growth Fund to be selected by default

Multiple Fund Options:

Under this option you have a facility to select a mix of two unit linked funds of the plan. Fund mix can be selected in multiples of 10%. It means that the funds split can be of 90/10, 80/20, 70/30, 60/40 or 50/50.:

Charges:

Charges	Rate / PKR
Administration charge	50,000 to 99,999: PKR 1,000/- per annum: 100,000 to 249,999: PKR 1,250/- per annum:
Bid/Offer Spread	5% of the net regular premium
Investment Management Charge	1.5% per annum
Fund Switching Fee	PKR 500
Surrender Processing Fee	PKR 500
Surrender Charge	100% for the first two year
Mortality Charge (Cost of Insurance)	An age-based mortality charge applies for the life insurance risk each year and is dependent on the sum at risk. No mortality charges apply in years where the cash value exceeds sum assured.

Wellness Charge:

Premium	Charges
50,000 to 99,999	PKR 3,000 per annum
100,000 to 249,999	PKR 4,750 per annum

Automatic Non-Forfeiture Option:

If premium payments are stopped due to any reason after paying two full years' premiums, the Company will keep the basic policy in force for a period of one year from the date of the first unpaid premium. During this one-year period, the Company will cancel enough units to pay for the cost of maintaining the cover and for administration. At the end of this period, if the policy still has a cash value, it will be converted to a "Paid-up" policy. In such a case, no further premiums would be payable and the amount payable on death or maturity will be equal to the Cash Value of the policy. At each policy anniversary, the Company will cancel enough units to pay for the administration charge of maintaining the policy.

A Complete and Exciting Proposition

"EFU Life WIN - Lite" presents a holistic solution that seamlessly blends the dependability of traditional insurance with the excitement of embracing well-being. With us, you're not only securing your future but also commencing an exciting journey towards a more robust and lively life. It's a domain where your health and personal advancement sync with an enticing offering.

Disclaimer


- The cash values can be further enhanced by payment of Fund Acceleration Premiums.
- A description of how the contract works is given in the policy Provisions and Conditions.
- Please contact our Head Office or Sales Consultant for a personalized illustration of the benefits.
- This brochure gives a general outline of the 'Wellness Plan'. The contract will be governed by the detailed conditions set out in the policy.
- All investments made in the selected Fund are subject to market risks. The investment risk of the selected fund will be borne by the policy holder.



EFU LIFE ASSURANCE LTD.

EFU Life House, Plot No. 112, 8th East Street, Phase I, DHA, Karachi, Pakistan
Fax: (021) 3453-7519 Email: csd@efulife.com

Registered Office: Al-Malik Centre 70 W, F-7/G-7 Jinnah Avenue,
(Blue Area) Islamabad, Phone: 051 - 2820989



ای ایف یو لائف ایشورنس لمیٹڈ

ای ایف یو لائف ایشورنس، پلاٹ نمبر 112، 8th، اسٹریٹ، فیزون، ڈی ایچ اے، کراچی، پاکستان۔

فیکس: 3453-7519 (021) ای میل: csd@efulife.com

رجسٹرڈ آفس: الملیک سینٹر W-70، ایف-7/جی-7 جناح ایونیو،

(بلو ایریا) اسلام آباد، فون: 051-2820989

خود کا ر ضبط نہ ہونے کا اختیار:

اگر مکمل دوسالوں کے پریمیم ادا نیگی کے بعد کسی وجہ سے پریمیم کی ادائیگی نہ ہو تو کمپنی پہلی غیر ادا شدہ پریمیم کی تاریخ سے ایک سال کے لیے بنیادی پالیسی کو فعال رکھے گی۔ اس ایک سال کی مدت کے دوران، کمپنی وہی پوائنٹس منسوخ کرے گی جو کوریج کے اخراجات اور انتظامی خرچ کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس مدت کے اختتام پر، اگر پالیسی کی ابھی تک کیش ویلیو موجود ہو، تو اسے ”پیڈ-اپ“ پالیسی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں مزید پریمیم ادائیگی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وفات یا میچورٹی کی صورت میں قابل ادا رقم پالیسی کی کیش ویلیو کے برابر ہوگی۔ ہر پالیسی کی اینیورسری پر، کمپنی پالیسی کے انتظامی چارج کو پورا کرنے کے لیے مناسب مطلوبہ منسوخ کرے گی۔

ایک مکمل اور زبردست پیشکش

”EFU لائف WIN-Lite“ ایک جامع حل پیش کرتا ہے جو روایتی انشورنس کو صحت و تندرستی کے فروغ کے جذبے کے ساتھ ملاتا ہے۔ ہمارے ساتھ، آپ نہ صرف اپنے مستقبل کو محفوظ کر رہے ہیں بلکہ ایک مستحکم اور متحرک زندگی کی جانب ایک دلچسپ سفر کا آغاز بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں آپ کی صحت اور ذاتی فلاح و بہبود ایک زبردست پیشکش کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے۔

ڈسکلیمر

- کیش ویلیوز میں مزید اضافہ فنڈ ایکسلریشن پریمیم کی ادائیگی سے ممکن ہے۔
- معاهدے کی تفصیل پالیسی کی شرائط و ضوابط میں بیان کی گئی ہے۔
- براہ مہربانی فوائد کی ذاتی تشریح کے لیے ہمارے ہیڈ آفس یا سیلز کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں۔
- یہ بروشر ”ویلنس پلان“، کا عمومی خاکہ فراہم کرتا ہے۔ معاہدہ پالیسی میں درج تفصیلی شرائط کے مطابق ہوگا۔
- منتخب کردہ فنڈ میں کی جانے والی تمام سرمایہ کاری مارکیٹ رسک سے مشروط ہیں۔ منتخب کردہ فنڈ کا سرمایہ کاری کا رسک پالیسی ہولڈر کو برداشت کرنا ہوگا۔



فنڈز	
EFU میڈیڈ گروتھ فنڈ	EFU گارنٹیڈ گروتھ فنڈ [®]
فنڈ کیلنڈر انویسٹمن: جیلنسڈ	فنڈ کیلنڈر انویسٹمن: سٹی مارکیٹ فنڈ
رسل پر وفاق: درمیانی	رسل پر وفاق: کم
ایک سرمایہ کاری فنڈ جو متوازن سرمایہ کاری کی حکمت عملی کے ساتھ ہے۔ اس کا مقصد کھوٹی سیکیورٹیز، مختلط طور پر منتخب کردہ بلوچپ ایکٹیو، اور دیگر مقررہ آمدنی کی سیکیورٹیز اور دیگر فلڈ انکم سیکیورٹیز اور کیش میں سرمایہ کاری کے ذریعے معقول سرمایہ بڑھانا اور مستقل منافع حاصل کرنا ہے۔	ایک سرمایہ کاری فنڈ جو مستقل منافع فراہم کرتا ہے اور اس کی ضمانت ہے کہ فنڈ کی بولی کی قیمت کبھی کم نہیں ہوگی۔ اس کا مقصد قلیل مدتی ڈیٹ سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کے ذریعے حکام اضافہ حاصل کرنا ہے۔
EFU انکم گروتھ فنڈ [®]	EFU ایگریسیو فنڈ
فنڈ کیلنڈر انویسٹمن: انکم فنڈ	فنڈ کیلنڈر انویسٹمن: ایگریسیو
رسل پر وفاق: کم	رسل پر وفاق: ہائی
ایک سرمایہ کاری فنڈ ہے جو مستقل منافع فراہم کرتا ہے۔ اس کا مقصد کھوٹی سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کے ذریعے سرمائے کو مستقل بڑھانا ہے۔	ایک سرمایہ کاری فنڈ ہے جو زیادہ منافع کی شرح فراہم کرنے والی ایکویٹیز میں سرمایہ کاری کرنے کے مقصد سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد ایگریسیو سرمایہ کاری کی حکمت عملی استعمال کرتے ہوئے سرمائے میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنا ہے۔

متعد فنڈ کے اختیارات:

اس آپشن کے تحت آپ کو پلان کے دو یونٹ لنڈ فنڈز کا کس انتخاب کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ فنڈس 10 فیصد کے ملٹیپلر میں منتخب کیا جاسکتا ہے، یعنی فنڈز کی تقسیم کی 10/90، 80/20، 70/30، 60/40، یا 50/50 صورت میں ہو سکتی ہے۔

چارجز:

چارجز	ریٹ فی روپے
انتظامی چارجز	50,000 سے 99,999: سالانہ 1,000 روپے 100,000 سے 249,999: سالانہ 1,250 روپے
بڈ/آفراپیڈ	5 فیصد
سرمایہ کاری کے انتظام کے چارجز	سالانہ 1.5 فیصد
فنڈ سے منتقلی کی فیس	500 روپے
دستبرداری کی پروویڈنگ فیس	500 روپے
دستبرداری کے چارجز	پہلے سال 100 فیصد
مورٹیلیٹی چارج (انٹورس کی قیمت)	ہر سال لائف انٹورس رسل کے لیے عمر کی بنیاد پر مورٹیلیٹی چارج لاگو ہوتا ہے اور یہ رسل میں موجود رقم پر منحصر ہوتی ہے۔ جب کیش ویلیو انٹورس رقم سے زیادہ ہو تو کوئی مورٹیلیٹی چارج لاگو نہیں ہوگا۔

پلینس چارج:

پلینم	چارج
50,000 سے 99,999	سالانہ 3,000 روپے
100,000 سے 249,999	سالانہ 4,750 روپے

انڈیکیشن:

یہ آپشن آپ کو اس ذہنی سکون اور تحفظ کا احساس فراہم کرتا ہے کہ آپ کے پلان کے فوائد ہر سال افراط زر کے مطابق خود بخود اپ ڈیٹ ہو جائیں گے، خواہ آپ کی صحت کیسی بھی ہو۔ ایک بار جب آپ یہ آپشن منتخب کر لیں، تو ہر سال پریمیم میں پچھلے سال کے پریمیم کا 5 فیصد اضافہ ہو جائے گا۔

یونٹس کی تخصیص:

بنیادی پلان کا وہ تناسب جو سرمایہ کاری کے لیے مختص کیا گیا ہے، درج ذیل جدول میں دکھایا گیا ہے:

پالیسی کا سال	یونٹ کی تخصیص	تخصیص کے چارجز *
1	40%	60%
2	70%	30%
3	85%	15%
4 یا اس سے زائد	100%	0%

* ایلکیشن چارج ہر سال ادا شدہ پریمیم سے مندرجہ بالا جدول کے مطابق منہا کیا جائے گا، اور باقی رقم صارف کے اکاؤنٹ ویلیو میں شامل کی جائے گی۔

انشورنس رقم:

یہ وہ رقم ہے جو پالیسی ہولڈر/انشورڈ فرد کی وفات کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ رقم ریگور بنیادی پلان پر بیمہ کو پالیسی ہولڈر کے منتخب کردہ پروٹیکشن ملٹیپل کے ساتھ ضرب دے کر حاصل کی جاتی ہے۔


پروٹیکشن ملٹیپل عمر کے آغاز پر مقررہ حدود کے مطابق ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے درج ذیل جدول ملاحظہ کریں:

پروٹیکشن ملٹیپل	عمر
5 to 50	18 - 35
5 to 40	36 - 40
5 to 30	41 - 49
5 to 10	50 - 60
5	60 - 65

ترقی کے مواقع:

پلان کے لیے ادا کیے گئے ہر پریمیم کی سرمایہ کاری EFU Life کے ایک انٹرنل انویسٹمنٹ فنڈ میں کی جائے گی۔ یہ مکمل طور پر آپ کے فیصلے پر منحصر ہے کہ آپ اپنی سرمایہ کاری کے اہداف کی بنیاد پر کون سا انٹرنل فنڈ منتخب کرتے ہیں۔ آپ درج ذیل یونٹ فنڈز میں سے منتخب کر سکتے ہیں:

تمام دستیاب فنڈز کو سرمایہ کاری کے معیار کے مطابق ان کی رسک پروفائٹنگ کے ساتھ درجہ بندی کی گئی ہے۔



حادثاتی موت اور معذوری کا فائدہ: یہ رانڈر حادثاتی موت یا معذوری کی صورت میں اضافی یکمشت رقم فراہم کرتا ہے۔	حادثاتی موت کا بینیفٹ: اگر موت کسی حادثے کے باعث ہو، تو یہ فائدہ اضافی یکمشت رقم فراہم کرتا ہے۔
حادثاتی موت اور معذوری کا فائدہ پلس: یہ رانڈر حادثاتی موت یا معذوری (مکمل اور مستقل)، جو آپ کو مستقل معذور بنا دے، کی صورت میں اضافی یکمشت رقم فراہم کرتا ہے۔	اضافی ٹرم اشورنس: یہ رانڈر زندگی کی کوریج کو بڑھاتا ہے اور اشورڈ فرد کی وفات کی صورت میں بنیادی پلان کی اشورنس رقم کی 50 فیصد سے 200 فیصد تک اضافی رقم فراہم کرتا ہے۔
فیملی ٹکم بینیفٹ: یہ فائدہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پالیسی ہولڈر (اشورڈ فرد) کی موت کی صورت میں پلان کی مدت کے دوران فیملی کو ماہانہ آمدنی فراہم کی جائے۔	پرییمیم کی چھوٹ: اگر اشورڈ فرد بیماری یا حادثے کی وجہ سے کسی بھی پیشہ کو جاری رکھنے سے قاصر ہو تو پرییمیم کی ادائیگی EFU Life کے ذریعے کی جائے گی۔

* کسی بھی ایک ایکسیڈنٹل بینیفٹ کو منتخب کیا جاسکتا ہے۔

فنڈ ایکسلریشن پرییمیم:

اگر کسی بھی وقت پلان کی مدت کے دوران آپ کے پاس اضافی نقد رقم موجود ہے، تو اسے پلان میں سرمایہ کاری کر کے آپ کی کیش ویلیو بڑھایا جاسکتا ہے۔ ان اضافی ادائیگیوں کو فنڈ ایکسلریشن پرییمیم کہا جاتا ہے۔ آپ یہ ادائیگیاں پالیسی کو فعال رکھتے ہوئے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ فنڈ ایکسلریشن پرییمیم کی کم از کم ادائیگی 50,000 روپے ہے۔

جزوی دستبرداری:

پالیسی سے دستبردار ہوئے بغیر، آپ کسی فوری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی کیش ویلیو سے کوئی بھی رقم نکال سکتے ہیں۔ جزوی دستبرداری کی اس شرط کے ساتھ اجازت ہے کہ بقیہ رقم کم از کم 50,000 روپے ہو۔

مکمل دستبرداری:

آپ دوسرے سال کی پرییمیم کی ادائیگی کے بعد اپنے پلان کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ دستبرداری کے وقت، آپ کو اپنے فنڈ کی مکمل کیش ویلیو ادا کی جائے گی۔ تاہم، ابتدائی پالیسی سالوں میں دستبرداری سے آپ کو کم کیش ویلیو مل سکتی ہے۔

یونٹ سے منسلک سیونگز پلان سے متعلق اہم تفصیلات

عمر کی اہلیت	18 سے 65 سال
کم از کم اور زیادہ سے زیادہ پلان کی مدت	10 سے 40 سال
مہجور پٹی کے وقت سے زیادہ سے زیادہ عمر	75 سال
کم از کم پریمیم	سالانہ 50,000 روپے
فنڈ ایکسلیکیشن پلان	کم از کم: 50,000 روپے
ادائیگی کا طریقہ کار	سالانہ بنیاد پر
پروٹیکشن ملٹیپلز	5 سے 50 (پالیسی کی شروعات کے وقت پالیسی ہولڈر کی عمر پر منحصر)
قلیل مدت	سالانہ 12,000 روپے تک
درمیانی مدت	سالانہ 10,000 روپے تک
طویل مدتی	پالیسی کی مدت اور سالانہ اسٹیٹس کی بنیاد پر 35 فیصد تک سالانہ بونس



پروڈکٹ کا انکشاف:

یہ ایک لائف انشورنس پروڈکٹ ہے جس میں دو مختلف عناصر شامل ہیں: انشورنس پروٹیکشن اور سرمایہ کاری۔ سرمایہ کاری کا حصہ یونٹ سے منسلک فنڈز کے تحت بنیادی اثاثوں کی کارکردگی کی بنیاد پر ہے۔

فری لک پیریڈ:

اگر آپ دستاویزات کی وصولی کی تاریخ سے 14 دن کے فری لک پیریڈ کے اندر اپنی پالیسی منسوخ کرتے ہیں، تو EFU Life کی جانب سے طبی یا کلینکل معائنوں سے متعلقہ اخراجات تفریق کرنے کے بعد آپ پر بیمہ کی مکمل رقم واپسی کے حقدار ہوں گے۔

وفات کی صورت میں فوائد:

پالیسی ہولڈر (انشورڈ فرد) کی خدا خواستہ وفات ہونے کی صورت میں نامزد افراد کو درج ذیل بینیفٹس حاصل ہوں گے:

عمر 55 سال تک:

بنیادی پلان کی انشورنس رقم + ریگولریٹک پلان پر بیمہ پر لاگو یونٹس کی کیش ویلیو + فنڈ ایکسلیکیشن پر بیمہ (FAP) کی ادائیگیوں کے مطابق یونٹس کی کیش ویلیو (اگر کوئی ہو)

عمر 56 سال اور اس سے زائد:

بنیادی پلان کی انشورنس رقم یا ریگولریٹک پلان کی پر بیمہ کے مطابق یونٹس کی کیش ویلیو (جو بھی زائد ہو) + فنڈ ایکسلیکیشن پر بیمہ (FAP) کی ادائیگیوں کے مطابق یونٹس کی کیش ویلیو (اگر کوئی ہو)

مہجور پٹی فوائد:

پالیسی کی مدت ختم ہونے پر، قابل ادائیگی مہجور پٹی فوائد درج ذیل ہوں گے:

بیسک پلان پر بیمہ کی مد میں مختص کردہ یونٹس کی مجموعی کیش ویلیو۔

مزید برآں،



فنڈ ایکسلیکیشن پر بیمہ (FAP) کی مد میں مختص کردہ یونٹس کی کیش ویلیو (اگر کوئی ہو)۔

EFU LIFE WIN پوائنٹس

جو آپ ایک سال میں حاصل کر سکتے ہیں



صارف کی صحت و تندرستی کا سفر



متعلقہ ڈیوائسز

جسمانی سرگرمیوں کا جائزہ پہننے والی ڈیوائسز کے ذریعے کیا جاسکتا ہے۔ آپ پہننے والی کوئی بھی 4 ڈیوائسز کو ایپ کے ساتھ sync کر سکتے ہیں، جیسا کہ Garmin, Fitbit, Apple Watch, Samsung Gear Zero, Infinix, Xiaomi یا اسمارٹ واچز۔

تمام متعلقہ ڈیوائسز کی فہرست پالیسی و سٹاویزات میں موجود ہے۔



ریوارڈز کے لیوز	ٹارگٹ	ریوارڈز
تقلیل مدتی ریوارڈز	50,000 اسٹپس کی تکمیل کا چیلنج یا 5 گھنٹے کی بھی جسمانی سرگرمی میں مصروف عمل رہیں جس میں آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو، جو بھی سیکھیں۔ (یہ اہداف صارف کی سرگرمی اور پرمیٹنگ نوٹس کی بنیاد پر تبدیل ہو سکتے ہیں)	اسٹپس کی تکمیل یا دل کی دھڑکن تیزی کے ہدف کے حصول پر 500 روپے کا ڈاؤنچ۔ ایک ماہ میں زیادہ سے زیادہ 404 ڈاؤنچ
درمیانی مدت کے ریوارڈز	صارفین سالانہ 100,000 تک پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پوائنٹس بذریعہ جسمانی سرگرمی اور ایپ کے ساتھ مصروف عمل رہنے سے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔	صارف 100,000 پوائنٹس تک حاصل کر سکتا ہے اور ہمارے آن لائن ریوارڈز اسٹور سے زبردست ریوارڈز خرید سکتا ہے۔
طویل مدتی ریوارڈز	زیادہ سے زیادہ 35 فیصد پالیسی سے مسئلہ ہنس حاصل کیے جاسکتے ہیں جس کا انحصار پالیسی کی مدت اور WIN Status پر ہے۔	پالیسی کی مدت اور سالانہ WIN Status کی بنیاد پر جو پالیسی انویزمنری پر حاصل ہو۔

پالیسی کی مدت (ماہوں میں)	بکتر	مموور	انویزور	وزر
5 سال	0%	5%	10%	15%
6-10 سال	0%	7.5%	15%	20%
11-15 سال	0%	10%	20%	30%
16-20 سال	0%	12.5%	25%	35%

WIN Status

صارف EFU Life WIN Status پروگرام میں آگے بڑھ کر سکتا ہے اور اپنے WIN Status کی بنیاد پر مختلف ریوارڈز حاصل کر سکتا ہے۔ آپ جتنے زیادہ پوائنٹس جمع کریں گے، آپ کا WIN Status اتنا ہی بلند ہوگا، اور ریوارڈز بھی اتنا زیادہ ہوگا۔

وزر
85,000 پوائنٹس

انویزور
70,000 پوائنٹس

مموور
50,000 پوائنٹس

بکتر
50,000 پوائنٹس سے کم

آپ کا WIN Status ایک سال بعد لاکر دیا جائے گا۔ ایک سال بعد آپ کو مصروف عمل اور آمدہ رکھنے پر آپ کے WIN Status کی ابتدائی سطح سے کا آغاز ہوتا ہے اور ہر پالیسی سال کے آغاز پر آپ کے پوائنٹس 0 پر ریٹرن ہو جاتے ہیں۔

طرز زندگی اور اعتماد کے فوائد۔ روزمرہ زندگی میں خوشگوار صحت۔

ای ایف یو لائف WIN-Lite کے ذریعے خاص آفرز اور پارٹنرز کا نوٹس تک رسائی حاصل کریں، جن میں شامل ہیں:

- جمر اور وپلنٹس برانڈز
- صحت مند کھانے، ریٹیل اور تفریحی مواقع
- ہیلتھ کیئر اور ڈائجیٹو سنک سہولیات
- فٹنس اور وپلنٹس فسیلیٹیز



ایم ہیلتھ کی سہولت کے ساتھ صحت کی دیکھ بھال، ہر وقت، ہر جگہ

ای ایف یو لائف WIN میں ایم ہیلتھ کی سہولت بھی شامل ہے، جو ایک مکمل ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارم ہے اور خاص طور پر ہمارے صارفین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ڈیجیٹل ہیلتھ سروس آپ کو کسی بھی وقت طبی مشورے اور وپلنٹس ٹولز تک آسان رسائی فراہم کرتی ہے۔

mHealth کی نمایاں خصوصیات:

ای ایف یو لائف WIN-Lite کے ساتھ مفت ایم ہیلتھ سروس کا فائدہ اٹھائیں۔ کوئی اضافی خرچ نہیں، بس بہتر دیکھ بھال۔

- دن رات، کسی بھی وقت ڈاکٹر سے مشورہ
- جنرل فزیشنز، سائیکا لوجسٹ اور نیوریشنلسٹ سے آپ کیلنڈر کی بکنگ
- عیسوی اور چھٹائی لیجز پر ڈائجیٹو سنک ٹیسٹ پر ڈسکاؤنٹ
- آن لائن فارمیسی سے براہ راست ایپ میں دوا کی خریداری اور رعایت
- ای۔ پریسکر پشنز، دوائیوں کی یاد دہانی، اور واپس لینڈنگ
- وپلنٹس جب۔ صحت و تندرستی پر مبنی منتخب معلوماتی مواد کی لائبریری



ویلنس ویل ایک خود تشخیصی ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو افراد کو اُن کی زندگی کے اُن پہلوؤں کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتا ہے جن پر مزید توجہ یا بہتری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اپنی فلاح و بہبود کو خود ڈیجیٹل انداز میں دیکھ کر، صارفین اپنے اہداف طے کر سکتے ہیں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں بہتری کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں، جس کا مقصد ایک زیادہ متوازن اور اطمینان بخش زندگی کا حصول ہے۔

ہیلتھ اسکور

ہیلتھ اسکور 0 سے 1,000 کے درمیان ایک عدد ہے جو مجموعی طور پر صحت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ سائنسی بنیادوں پر تیار کیا گیا پیمانہ ہے جو 300 ملین سے زائد انسانی سالوں پر مبنی سائنسی ڈیٹا سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ ریئل ٹائم میں بڑھتا یا کم ہوتا ہے، جو اس بات پر منحصر ہے کہ صارف کی جسمانی صحت، جذباتی خوشحالی، اور طرز زندگی میں وقت کے ساتھ کیسا فرق آتا ہے۔ ہیلتھ اسکور کو 3 کیلکریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔



ہیلتھ اسکور کا حساب لگانے کے بعد درج ذیل رینج پیش کی جاتی ہیں، جو مخصوص کیلکریز کے مطابق ہوتی ہیں اور آپ کی ابتدائی صحت کی صورت حال کی نشاندہی کرتی ہیں۔

ضروری درکار عمل	ہیلتھ اسکور کیلکری	ہیلتھ اسکور رینج
بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے	کم درجے پر بہتر	0 - 479
مجموعی صحت و تندرستی کے لئے درست راہ پر	اچھا بہت اچھا	480 - 549
اچھی طرز زندگی کو جاری رکھیں!	بہترین ہیلتھ اسکور	550 - 609
		610 - 679
		680 - 1000

جامع ریوارڈ پروگرام

EFU Life WIN — Lite ریوارڈز کے 3 درجے پیش کرتا ہے جو افراد کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کی ترغیب دینے کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ یہ محرکات سال بھر، یعنی 365 دنوں تک، فلاح و بہبود کو فروغ دیتے ہیں اور ریوارڈز کے متعدد درجات کا احاطہ کرتے ہیں، جن کا آغاز آپ کی WIN ممبر شپ کے پہلے دن سے ہوتا ہے۔

آپ روزمرہ کے کاموں یا جسمانی سرگرمیوں جیسے روزانہ کی چہل قدمی، جم کی ورزش، سائیکلنگ وغیرہ کے ذریعے پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، آپ EFU Life WIN ایپ کے ساتھ صرف مصروف عمل ہونے کے ذریعے بھی پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں، جو آپ کے روزمرہ کے معمولات، بشمول نیند، غذا، اور جسم کی اہم معلومات کو ٹریک اور ریکارڈ کرتی ہے۔ ہماری ایپ آپ کی زندگی کی اہم تاریخوں کو بھی یاد رکھتی ہے اور آپ کو ریوارڈز پوائنٹس دے کر خوشگوار طور پر سرپرائز دیتی ہے، جو آپ کی سالانہ WIN Status کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں۔

EFU لائف WIN سیونگن پلان سے متعلق

ای ایف یو لائف WIN – Lite سیونگن پلان ہماری معروف ویلنٹس پروڈکٹ کا ایک کفایتی ورژن ہے، جو غیر متوقع حالات میں آپ کے پیاروں کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ صحت مند طرز زندگی اپنانے پر آپ کو انعام دیتا ہے۔

WIN – Lite کے ساتھ صحت اور تحفظ ایک آسان، طویل مدتی شراکت میں یکجا ہو جاتے ہیں۔

یہ پروڈکٹ یونٹ سے منسلک سرمایہ کاری منصوبہ ہے، جو وہ اپنی لائف انشورنس سے مختلف ہے۔ یہ آپ کو آپ کی مرضی کے فنڈ میں اپنے پرمیجر کی سرمایہ کاری کرنے کا موقع دیتا ہے، تاکہ آپ کی مالی ترقی میں اضافہ ہو۔ لیکن صرف یہی نہیں، ہمارے ویلنٹس فیچر کے ساتھ، آپ اپنے ریوارڈز کو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، بشمول قلیل مدتی، وسط مدتی، اور طویل مدتی پالیسی سے منسلک فوائد جو صحت مند زندگی کو فروغ دیتے ہیں۔

یہ پلان 2 اہم حصوں پر مشتمل ہے

آپ کی طرز زندگی سے واقفیت حاصل کر کے صحت مندرویہ کی حوصلہ افزائی کے ذریعے آپ کے صحت مند سفر میں معاونت کرتا ہے۔

انشورنس کے ذریعے آپ کے مستقبل کی حفاظت کرتا ہے۔

پروٹیکشن

- انشورنس کوریج
- میچورٹی کے فوائد
- سرمایہ کاری اور گروتھ
- اختیاری رائڈرز



ویلنٹس

- EFU لائف WIN ایپ
- زبردست ریوارڈز
- کسٹمائزڈ اہداف اور چیلنجز
- ہیلتھ اسکور
- انکچنٹ ٹولز

ایک فاتح حکمت عملی

ویلنٹس ویل ڈیجیٹل صحت کی شمولیت کو پہلے سے کہیں زیادہ آسان بنا دیتا ہے۔ یہ ایک جدید صحت کا ٹول ہے جو ایک فرد کی فلاح و بہبود کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کرتا ہے اور انہیں بصری انداز میں پیش کرتا ہے۔



یہ سات مخصوص عناصر کا احاطہ کرتا ہے جو صارف کی جامع صحت کی نگرانی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور مزید ذاتی نوعیت کے اہداف فراہم کرتے ہیں۔ ان کیلکریز میں جسمانی صحت، ذہنی صحت، جسمانی سرگرمی، نیند، ذہن سازی، خود پر قابو، اور غذائیت شامل ہیں۔



dacadoo

ہمارا ہیلتھ ٹیک پارٹنر

Dacadoo ایک سانس ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو اپنے صارفین، بشمول EFU لائف کی ڈیجیٹل تبدیلی کی معاونت میں مہارت رکھتی ہے، جو سائنسی ڈیٹا کے ڈیجیٹل شخصی سالوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ Dacadoo نے دنیا بھر میں متعدد لائف اور ہیلتھ انشورنس کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کی ہے اور بہبود کے شعبے میں ڈیجیٹل انقلاب لا رہا ہے۔



EFU لائف WIN-Lite آپ کی صحت و تندرستی کا محافظ

صحت مند زندگی گزارنا اور اپنی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا دونوں انتہائی اہم ہیں جس میں جسمانی، غذائی اور ذہنی صحت کا توازن شامل ہے، جو آپ کی روزمرہ زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جب ہم صحت مند عادات اپناتے ہیں، تو زندگی زیادہ خوشگوار اور تجربہ بات زیادہ خوبصورت بن جاتے ہیں۔

ہمارے خصوصی ویلنٹس پروگرام کے ذریعے جانیں کہ آپ کیسے اپنی زندگی کو مزید صحت مند بنا سکتے ہیں۔

EFU لائف WIN-Lite آپ کی فلاح و بہبود کا راستہ

ہم آپ کے لئے ایک نیا اور بہترین ویلنٹس پروگرام متعارف کر رہے ہیں جو آپ کی صحت اور فلاح و بہبود کا خیال رکھنے کا اختیار آپ کو دیتا ہے!

EFU لائف WIN-Lite ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ کے صحت مند طرز زندگی کے سفر میں آپ کی معاونت کرتا ہے اور آپ کی جسمانی سرگرمیوں کو مانٹر کرتا ہے، آپ کی غذائی عادات کو جانچتا ہے، اور آپ کو اپنی حد سے تجاوز کرنے کا چیلنج دیتا ہے، جس میں ہر کامیابی پر آپ کو ریوارڈ بھی ملتے ہیں۔ EFU لائف WIN-Lite کے ذریعے ہمارا مقصد اپنے صارفین کو با اختیار بنانا ہے تاکہ وہ اپنی صحت کو خود بہتر بنانے کا موقع دیں، اس کے ساتھ ہی آپ کو پاکستان کی معروف انشورنس کمپنی کے تحفظ کا اطمینان بھی حاصل رہتا ہے۔

ای ایف یو لائف WIN-Lite آپ کے لیے صحت مند زندگی اور تحفظ کو ایک آسان انداز میں لے کر آیا ہے۔ آپ کا قابل اعتماد ساتھی، بہتر اور خوشحال زندگی کی جانب سفر میں۔

یہ صرف انشورنس نہیں ہے؛ یہ ایک بہتر اور صحت مند زندگی کی جانب ایک دلچسپ سفر ہے!



EFU LIFE



EMBRACE WELLNESS



ای ایف یو لائف
ون لائٹ سیونگنز پلان